www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

مولانا عبد الرحمٰن کیلانی

عظمتِ رسولؐ ۔ قرآن کے آئینے میں

آپ کا اسمِ گرامی ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسمائے گرامی قرآن کریم و کتبِ حدیث میں مذکور ہیں مگر آپؐ کے ذاتی نام دو ہیں۔ محمدؐ اور احمدؐ اور یہ دونوں ہی آپؐ کے علوئے مرتبت و عظمتِ مقام کی دلیل ہیں۔ سورۂ فتح میں آپؐ کا نام محمدؐ بتایا گیا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

"محمد اللہ کے رسول ہیں۔"

آپ کا دوسرا نام "احمدؐ" ہے جو حضرت عیسیٰؑ نے آپؐ کی بعثت کی اطلاع دیتے ہوئے بیان فرمایا:

مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔"

لفظ احمد اور محمدؐ دونوں کا مادہ حمد ہے۔ حمد کا لفظ جب خدا کی طرف سے بولا جائے تو اس کے معنی ہیں تعریف و ثناء، مدح و ستائش کے ساتھ ساتھ عطا اور بخشش کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ اور جب یہ لفظ بندے کی طرف سے بولا جائے تو اس سے مراد، حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ تشکر و امتنان کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح محمدؐ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے عادات و خصائل اور کارہائے نمایاں کی بدولت ساری دنیا میں مشہور و معروف اور تعریف کیا ہوا ہے۔ اور پورا عالمِ انسانیت آپؐ کے احسانات کا زیرِ منت ہے ـــــــ حتیٰ کہ ملائکہ آپؐ کے ثناء خواں ہیں تمام انبیاء آپؐ کے ثناء گو ہیں اور تمام بنی نوع حتیٰ کہ آپؐ کے دشمن تک بھی آپ کی ذاتی حیثیت میں آپؐ کی عظمتِ کردار کا انکار نہیں کر سکتے۔

آپ احمدؐ ہیں ان معنوں میں کہ آپ خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اور اس کے سب سے بڑے سپاس گزار ہیں۔ اپنے خالق و مالک کے رتبے و مقام کو جتنا آپ نے جانا اور پہچانا ہے

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

وہ کسی اور نبی کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس لیے آپ بجا طور پر احمد و محمد ہیں۔

آپ کا رفع ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (انشراح)

"ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔"

حقیقت یہ ہے کہ عظمتِ محمدؐ سے خود خدا ہی صحیح طور پر آگاہ ہے جو قرآن کریم میں جا بجا آپ کے اخلاقِ عالیہ و فضائل محامدہ کی گواہی دیتا ہے اور انسان آپ کے بلند مرتبہ کے ادراک سے بھی عاجز و قاصر ہیں۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو شہرتِ جاوداں بخشنے کے لیے سرکاری طور پر اہتمام فرما دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ روئے زمین کے ہر ہر گوشے میں ہر وقت دن ہو کہ رات، صبح ہو کہ شام، ہر لمحہ اور ہر گھڑی آپ کے نامِ مبارک کا ذکر ہوتا رہتا ہے خواہ کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے۔ ہر طور اللہ کی معبودیت کے ساتھ ساتھ محمدؐ کے منصبِ رسالت کی بھی شہادت دی جاتی ہے۔ جہاں آپؐ کا نام لیا جائے، وہاں موجود تمام مسلمان آپؐ کے لیے اللہ سے "صلی اللہ علیہ وسلم" پڑھ کر دعا کرتے ہیں بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ محمدؐ پر ایمان لانا بھی شرطِ لازم ہے پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعتِ رسول بھی ضروری ہے۔

آپؐ کے رفع ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے دشمنوں کا نام روئے زمین سے مٹا ڈالنے کا بھی سرکاری اہتمام فرمایا ہے۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (کوثر)

"یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔"

اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا آج ابو جہل و ابولہب وغیرہ کو ملعون کہہ کر پکارتی ہے اور آج تک کسی نے اپنی اولاد کا نام ان کے ناموں پر نہیں رکھا جب کہ مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کا رواج بکثرت ہے۔

آپ تمام بنی نوعِ انسان کی ہدایت و رشد کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔"

چنانچہ ہر رنگ، ہر زبان، ہر نسل، اور ہر جغرافیائی خطے کے انسانوں کے لیے آپؐ داعی الی اللہ ہیں۔ آپؐ کے اسمِ مبارک نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو رنگ و نسل اور زبان و مکان کے امتیاز کے

© rasailojaraid.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

بغیر وحدت کی ایک کڑی میں پرو کر رکھ دیا ہے۔ اگر آپؐ کا نام گرامی ایک مضبوط بندھن ہے جس نے سب مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے تو آپؐ کا اسوۂ حسنہ وہ مضبوط رابطہ ہے جس سے ہر مسلمان آپؐ کے ساتھ کلی طور پر مربوط ہے۔

خُلقِ محمدی۔ عظمتِ رسولؐ کا نمایاں ترین پہلو آپؐ کے کردار اور اخلاق کی عظمت ہے جس کے سامنے روئے زمین کے تمام اعاظم و اکابر دم بھرتے نظر آتے ہیں جس کے متعلق خود خالقِ کائنات یہ گواہی دے کر:

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (قلم)

"بے شک آپؐ کا اخلاق بڑا بلند ہے۔"

اس کی عظمتِ کردار میں کیا شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپؐ کی بعثت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی بھی ایسی بے داغ ہے کہ کسی مقام پر انگلی رکھنی محال ہے۔ نبوت سے پہلے آپؐ "صادق" اور "امین" کے لقب سے مشہور تھے۔ اس وقت بھی آپؐ شرک کی نجاست اور قمار بازی و شراب خوری جیسی خباثتوں سے معزول تھے۔ آپؐ کی عظمتِ اخلاق کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آپؐ کے ہمعصروں نے جن میں دوست و دشمن سب شامل تھے بالاتفاق آپؐ کو صادق اور امین تسلیم کر لیا تھا۔ اس عظمتِ سیرت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کے متمنی ہوں۔ نبوت کے بعد جب آپؐ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا اور ہر طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے مخالفین کے سامنے یہی دلیل بطور معجزہ پیش کر دی اور آپؐ نے علی الاعلان فرمایا:

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

"یقیناً میں اس (یعنی اعلانِ نبوت) سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔"

یعنی جس شخص کی ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے موجود ہے، جس نے عام دنیاوی معاملات میں تم سے راستبازی اور امین ہونے کی سند حاصل کر لی ہے، جس نے عام انسانی معاملہ میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا اب اس کی دعوت کے معاملے میں شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیا وہ خالقِ کائنات کے بارے میں جھوٹ بولنے کا مرتکب ہو سکتا ہے؟!

آپؐ انتہا درجہ کے رحم دل، خیر خواہ اور غمگسار تھے۔ آپؐ کی شفقت و رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوعِ انسان کے لیے عام تھی۔ اس سے دوست بھی حصہ پاتے اور دشمن بھی،

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

بلکہ بے زبان جانور بھی آپ کی رحم دلی سے برابر فیضیاب ہوتے تھے۔ ارشادِ باری ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ۔

"ہم نے آپؐ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

یہ آپؐ کی نرمیٔ طبع ہی کا نتیجہ تھا کہ آپؐ ایک اخلاق باختہ، گم کردہ راہ، اور منتشر قوم کو ٹھوس بنیادوں پر ایک مضبوط قوم بنانے میں کامیاب ہوگئے۔ ان کو آپس میں شیر و شکر کیا۔ ان کا منتشر شیرازہ یکجا کیا اور ان کے افکار و عقائد اور اعمال و اخلاق کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ان میں ایک دیرپا اور دوررس انقلاب بپا کر دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔

"اللہ کی رحمت کے سبب سے آپؐ ان کے لیے نرم خُو ہو گئے۔ اور اگر آپؐ تند خُو اور سخت دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے۔"

آپؐ اپنی امت کے حق میں اس حد تک شفیق و غمگسار تھے کہ اپنی امت کی ہر تکلیف آپؐ کے لیے بڑی شاق و دشوار ہوتی۔ آپؐ کو ہر وقت اپنی امت کی بہتری اور بھلائی کا ہی خیال رہتا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔

"بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اسے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے۔ تمہاری بھلائی کا وہ حریص ہے۔ وہ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔"

عام لوگوں کے حق میں آپ کی ہمدردی و شفقت کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہ لاتے۔ آپؐ ان کے لیے بڑے فکرمند رہتے۔ اور ان پر آخرت کے عذاب کے تصور ہی سے آپؐ کی جان پر بن جاتی۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

"اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، تو شاید آپ اسی بات پر افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔"

آپؐ کے اخلاقِ جلیلہ کے متعلق اس مختصر سے مضمون میں کیا لکھا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپؐ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؐ نے

© rasailojaraid.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

فرمایا کہ قرآن ہی آپؐ کا اخلاق ہے۔

معراج نبوی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ قرآن کریم میں سورۂ نجم اور سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہے۔ یہ واقعہ آپؐ کو تمام عالمِ انسانیت میں سے بلند ترین مقام پر فائز کرتا ہے۔ خود خالقِ کائنات کا ارشاد ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (صرف دو قوسوں کا فاصلہ دونوں کے درمیان رہ گیا، یا پھر اس سے بھی کم فاصلہ) اس سے بڑھ کر عظمتِ شان کیا ہو سکتی ہے۔ جس مقام پر فرشتوں کے سرخیل جناب جبریل کو بھی جانے کی اجازت نہیں، وہاں آپؐ نے پہنچ کر اپنے ربِ اکبر سے ملاقات کی۔ چنانچہ ساری کائنات میں سے نہ کسی خاکی کو وہ مقام نصیب ہوا نہ کسی نوری کو۔ ہم آپؐ کے متعلق یہی کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ:

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

جس طرح معراج کے واقعہ نے آپؐ کو دنیا میں سارے عالمِ انسانیت سے برتر و ارفع بنا دیا ہے اسی طرح آخرت میں وہ اپنا مقام و مرتبہ ہر فردِ بشر سے فزوں تر ہو گا۔ تمام انسانوں کے متعلق آپؐ خدا کی عدالت میں گواہی دیں گے۔

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ۱ (نساء)

"اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم آپؐ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے۔"

اور روزِ قیامت جب اللہ تعالیٰ کا جلال پورے عروج پر ہو گا اور تمام انبیاء قہرِ الٰہی سے تھرتھر کانپ رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفاعتِ عظمیٰ کے لیے آپ کو مقامِ محمود میں لا کھڑا کریں گے۔

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (بنی اسرائیل)

"جلد ہی آپؐ کا رب آپ کو مقامِ محمود میں مبعوث کر دے گا۔"

اس طرح آخرت میں بھی تمام مخلوقات میں سے آپؐ کو ارفع ترین مقام نصیب ہو گا اور آپؐ اپنے ربِ اکبر کے سب سے قریب ہوں گے۔

آپؐ کی عظمت کا بیان اس وقت تک تشنۂ تکمیل رہتا ہے، جب تک اس میں قرآن کریم اور اسلام کا بھی مختصر سا ذکر نہ آ جائے۔ کیونکہ آپؐ نے دنیا کے سامنے دینِ اسلام مکمل ترین اور جامع تشکل میں پیش فرمایا اور قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی دعوت کو مؤثر و کامیاب بنایا۔

اسلام وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (البقرة)

"یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ پس تم حالتِ اسلام ہی میں مرنا۔"

اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شان ان الفاظ میں بیان فرمائی:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا۔ (مائدہ)

"آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دینِ اسلام کو پسند کر لیا ہے۔"

گویا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے دینِ اسلام کو مکمل کر کے بنی نوعِ انسان کے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ اب دین و دنیا کی کوئی نعمت بھی ایسی نہیں جو اسلام کے مقابلے میں پیش کی جا سکے۔ جو شخص نعمتِ اسلام کی توہین کرتا ہے یعنی دائرۂ اسلام میں شامل نہیں ہوتا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔

مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (آل عمران)

"جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا پیچھا کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں رہے گا۔"

اسلام ایک دین ہے جب کہ دوسرے مذاہب ہیں۔ اسلام پوری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے جب کہ دیگر مذاہب زندگی کے چند پہلوؤں کو محیط ہوتے ہیں۔ یہ دین دوسرے مذہبوں کی طرح جنتر منتر، تعویذ دھاگے اور عملیات کا مرکب نہیں، بلکہ عملی زندگی کو نکھارنے والا انقلاب، نفس کا تزکیہ کرنے والی اور انسان کو تہذیب و شائستگی سے ہمکنار کرنے والی ایک تحریک ہے۔

اسی طرح قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا مصنف کوئی دنیاوی طاقت نہیں، بلکہ خود شہنشاہ رب العالمین ہے جسے سردار ملائکہ جبرئیل امین کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ جو سراسر حق ہے (إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ) جس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی (لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ) جس نے تاریخِ قدیم کی وہ گمشدہ کڑیاں بیان کیں، جو دستبردِ زمانہ سے بالکل مٹ چکی تھیں۔ اس نے آئندہ کے متعلق ایسی پیشنگوئیاں بیان کیں، جن کو بعد میں زمانے نے من وعن صحیح ثابت کر دیا۔ یہ کتاب روئے زمین پر ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر گھڑی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر وقت کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہتی ہے۔ جس میں بیان کردہ علمی حقائق موجودہ

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

...ور کے گراں قدر علمی و تحقیقی کارناموں اور صنعتی ترقیوں کے علی الرغم آج تک صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ اور قیامت تک صحیح ثابت ہوتے رہیں گے۔ جس کے الفاظ، معانی، اسلوب، غرض ہر چیز تہذیب و شرافت کا بہترین معیار ہے اور جس میں کہیں بھی تضاد بیانی کا شائبہ تک نہیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی جلالتِ شان سے بھی کما حقہٗ وہ شہنشاہ رب العٰلمین ہی واقف ہے۔ کیا دنیا میں اس پائے کی کوئی اور بھی کتاب ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک اہم پہلو آپ کی لائی ہوئی تعلیم ہے۔ آپؐ دنیا کے اس ظلمت کدہ میں مشعلِ ہدایت، روشنی کا مینار اور چمکتا ہوا سورج بن کر تشریف لائے۔ ارشادِ ربانی ہے:

۱۔ لَقَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ۔

"بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے"

۲۔ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا (احزاب)

"آپ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور چراغ روشن ہیں"

۳۔ تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (فرقان)

"وہ بڑی بابرکت ہستی ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان کو ڈرائے"

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (احزاب)

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتمے پر ہیں"

مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں آپ کی تعلیم کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔

ابدیت: یعنی آپؐ کی تعلیم قیامت تک کے لیے ہر طالب حق کے لیے مشعلِ ہدایت اور روشنی کا مینار ہے۔

عملیت: آپ کی تعلیم کسی فلسفی کے خیالات اور کسی مفکر کی خیالی جنت نہیں کہ کتابوں کی دنیا میں تو وہ بڑی حسین و جمیل معلوم ہوں مگر حقیقت کی دنیا میں صفر اور ناممکن العمل ہیں بلکہ آپ کی تعلیم انسان اور فطرت، جذبات و احساساتِ انسانی کے عین مطابق ہے۔ اس وجہ سے اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اور آپؐ نے اور آپؐ کے اصحاب کرام نے اس تعلیم پر خود عمل پیرا ہو کر دکھا دیا ہے۔

جامعیت: آپؐ کی تعلیم پر کسی ایک گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ تعلیم کوئی خاص طبقہ، پادریوں کا گروہ، کاہنوں کی برادری، پنڈتوں کا خاندان ہی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہر شخص بلا امتیاز حسب و نسب

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

رنگ ونسل، لسان ومکان اس تعلیم کو سیکھ کر انبیاءؑ کا وارث بن سکتا ہے۔ اور پھر اس پہ عمل کی راہیں بھی ہر ایک کے لیے کھلی ہیں۔

ہمہ گیریت: ہر پیشے اور ہر گروہ کے لوگ سائنسدان، لیڈر، فرمانروا، وکیل، سپہ سالار، تاجر، صنعتکار، کسان وزمیندار، آجر ومستاجر، مرد وعورت، میاں بیوی، اولاد اور والدین غرض ہر شخص کے لیے ہر موقع اور ضرورت کے مطابق آپؐ کی روشن اور بے داغ تعلیم وسیرت موجود ہے، اور آج دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے (خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم) جس نے آپؐ کی سیرت مبارک اور تعلیم مبارک سے کسبِ فیض نہ کیا ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی نے یہ فیض شعوری طور پر حاصل کیا ہے اور کسی نے غیر شعوری طور پر۔ آخر آج یورپ کو تہذیبِ جدید کے زینوں پر کس نے چڑھایا۔ اس یورپی ترقی سے اسلام کو کتنا گہرا تعلق ہے۔

آپ کا عظیم ترین کارنامہ جو جلی حروف میں لکھے جانے کا مستحق ہے اور جس کے بغیر آپ کا ذکر خیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تشکیلِ امتِ مسلمہ ہے۔ آپؐ سے پہلے دنیا میں انبیاءؑ کی عظیم تعداد تشریف لائی، مگر کوئی کسی ایک علاقہ میں مبعوث ہوا، کوئی کسی ایک [illegible] کی طرف، اور کوئی نبی صرف ایک قوم کی طرف۔ لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضۂ منصبی یہ تھا کہ آپ پورے عالمِ انسانیت کی بیرت کی تشکیل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپؐ نے اپنی مسلسل کوشش، انتھک جدوجہد اور سعی پیہم کے ذریعے پہلے عرب کے اجڈ، اکھڑ، متفرق وپراگندہ، [illegible] ناآشنا مشرکوں کو توحید کی دعوت پیش کی۔ آپؐ نے اس راہ میں بڑی ابتلائیں سہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپؐ کے اصحاب نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور بالآخر آپؐ ایسا گروہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو ذہنی وفکری، عملی واخلاقی لحاظ سے بالکل بدل چکا تھا جو اب خدا پرست وخدا ترس ہو چکا تھا۔ جو دن کے وقت جہاد کرتے، رات کے وقت نماز پڑھتے۔ آپس میں خیر خواہ وہمدرد، اپنے دین کے سچے مخلص۔ اللہ کے اور بندوں کے سب حقوق ادا کرتے، قانون کے پابند تھے اور علم کے شیدائی۔ وہ اپنے امیر کی اطاعت پر متحد ومتفق ہو چکے تھے۔ پھر یہ گروہ اٹھا اور اس نے پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمتِ عظمیٰ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ

© rasailojaraid.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (آل عمران)

"اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کر دیا جو ان کو آیاتِ الٰہی پڑھ کر سناتا ہے۔ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے سخت گمراہی میں پڑے تھے۔"

عظمتِ اخلاق و بلندیٔ کردار آپ کی رفعتِ شان کا بنیادی جزو تھا، چنانچہ آپ نے اپنی امت کو بھی اسی عظمتِ اخلاق کے رنگ میں رنگ دیا تو آپ کی امت بھی دوسری امتوں سے برتر اور اعلیٰ قرار پائی۔ اور آپ اپنی اُمت سے افضل ترین قرار پائے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (بقرۃ)

"اور اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ رہے۔"

اُمتِ وسط ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس سے مراد عدل و انصاف اور توسط کی راہ پر قائم رہنے والی، مرکزی حیثیت کی حامل قوم ہے، جس کے ساتھ عدل و انصاف کی بنا پر تمام قوموں کے تعلقات، یکساں ہیں۔ اس امتِ وسط کا فریضۂ تبلیغی و اخلاقی لحاظ سے ایک زندہ شہادت کا نمونہ قائم کرنا ہے۔

یورپ کا مشہور مصنف ٹامس کارلائل اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں تاریخِ عالم کے نامور ترین اشخاص کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں وہ گروہ انبیاء میں سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتا ہے، حالانکہ اور بھی بہت عظیم الشان اور جلیل المرتبت انبیاء کی سیرت و کارنامے اس کے سامنے تھے۔

آپ کے درجات کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ (فتح)

"تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔"

آپ کی تمام غلطیاں معاف فرما دی تھیں اور آپ کی تمام لغزشیں ختم کر دی تھیں۔ دوسری طرف آپ کو معلم ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کے تمام نیک اعمال کے برابر کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ بمصداق اس آیت کے مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا (النساء) اندازہ لگائیے۔ آپ کی

© rasailojaraid.com

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

امت کی تعداد تمام انبیاء کی تعداد سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے درجات کی بلندی کا کیا عالم ہو گا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ میرے پاس دو فرشتے ایک میزان لے کر آئے۔ ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا۔ دوسرے میں کسی اور آدمی کو۔ تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری نکلا۔ پھر دوسرے پلڑے میں دو آدمیوں کو رکھ دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں تعداد بڑھائی جاتی رہی۔ علیٰ ہذا القیاس دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا گیا تو پھر بھی میرا پلڑا بھاری نکلا۔

آخر ایسا کیوں نہ ہوتا۔ آپ پر اللہ کے احسانات ہی بے پایاں ہیں۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (ضحیٰ)

"اور آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔"

دوسرے مقام پر فرمایا

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (کوثر)

"بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی"

کوثر سے مراد کثرتِ انعام الٰہی، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات، برکتیں، رحمتیں اور انعام بے حد و حساب ہیں جو اور کسی کو دنیا میں نصیب نہیں ہیں۔

آپ کی عظمت کا ایک اور اہم پہلو آپ کی اپنی امت میں وہ مخصوص مقام ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء)

"رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔"

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

"کہہ دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، پھر خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔"

اپنے اختلاف و جھگڑے کے موقع پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور پھر آپ کے فیصلے کو برضا و رغبت تسلیم کرنا ہر مسلمان کے ایمان کی لازمی شرط قرار دی گئی۔ فرمایا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء)

"تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com
© rasailojaraid.com

نہ مان لیں۔ پھر آپؐ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی سے تسلیم کرلیں۔"

سورۂ حجرات میں بڑے واضح الفاظ میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب و احترام سے رہنے کے آداب سکھائے کہ "اے ایمان والو! اپنی آواز رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو کر رہ جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اور جو لوگ رسول کو حجروں کے باہر سے پکارنے لگتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ (حجرات)

آپؐ کی ذات کی موجودگی تمام لوگوں کے لیے جائے امن قرار پائی۔ کیونکہ آپ کی موجودگی میں عذاب الٰہی نازل نہیں ہوتا۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۔

"اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ تمہاری موجودگی میں ان کو عذاب دے۔"

غور فرمائیے کسی بھی قوم میں اتنا بلند و ارفع مقام کسی بادشاہ کو بھی حاصل ہو سکا ہے۔ آپؐ کے اپنی امت پر اتنے گرانقدر احسانات ہیں کہ ان کا عوض دنیا ہمارے بس میں نہیں۔ ہم تو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپؐ کے رفع درجات اور بلندئ مراتب کے لیے اللہ سے دعا گو رہا کریں۔ اسی لیے امت کو حکم ہوا۔

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (احزاب)

"بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبیؐ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

مسلم اکادمی ۲۹/۱۸ محمد نگر ۔ لاہور

ایک با مقصد اشاعتی ادارہ ـــ جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی خدمت کے سلسلہ میں فکر انگیز کتب طباعت و اشاعت کے اعلیٰ معیار پر پیش کر رہا ہے۔ اشاریہ تفسیر ماجدی، لغات القرآن (پارہ اوّل) اللہ کے احکام، طب نبویؐ، اربعین نووی، جائزہ مدارس عربیہ، تذکرہ مصنفین درس نظامی وغیرہ کتب ہماری مرتبہ اور مطبوعہ ہیں۔

(مینجر)

© rasailojaraid.com
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ